



عمل کی چھ قسمیں ہیں اور لوگوں کی چار دو عمل واجب کر دینے والے ہیں، ایک عمل کا بدلہ اسی کے مثل ملتا ہے، ایک عمل کا بدلہ دس گنا ملتا ہے اور ایک عمل کا بدلہ سات سو گنا ملتا ہے

خُریم بن فاتک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عمل کی چھ قسمیں ہیں اور لوگوں کی چار دو عمل واجب کر دینے والے ہیں، ایک عمل کا بدلہ اسی کے مثل ملتا ہے، ایک عمل کا بدلہ دس گنا ملتا ہے اور ایک عمل کا بدلہ سات سو گنا ملتا ہے۔ ان تک واجب کر دینے والے اعمال کی بات ہے تو وہ یہ ہیں: جو شخص اس حال میں وفات پائے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا اور جو شخص اس حال میں فوت ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا جس عمل کا بدلہ اسی کے مثل ملتا ہے وہ یہ ہے: جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے یا ان تک کہ اس کا دل اس نیکی کو محسوس کرنے لگے اور اللہ اس کے ارادے کو دیکھ لے، تو اس کے حق میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اور جو شخص کوئی برائی کرے تو اس کے حق میں وہ برائی لکھ دی جاتی ہے اور جو شخص نیکی کرے تو اس کے دس گنا اجر ملتا ہے اور جو شخص اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرے، اس کے سات سو گنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ ان تک لوگوں کی بات ہے تو کسی کو دنیا میں کشادگی ملی ہوئی ہے اور آخرت میں تنگی ملے گی، کسی کو دنیا میں تنگی ملی ہوئی ہے اور آخرت میں فراخی ملی گی، جب کہ کسی کو دنیا میں فراخی ملی ہوئی ہے اور آخرت میں بھی فراخی ملے گی۔

[حسن] [اسے امام احمد نے روایت کیا ہے]

اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ اعمال کی چھ قسمیں ہیں اور لوگوں کی چار دو عمل واجب کر دینے والے ہیں: پہلی قسم: جو شخص اس حال میں وفات پائے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہے تو وہ اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے دوسری قسم: جو شخص اس حال میں وفات پائے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو اس پر جہنم واجب ہو جاتی ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا یہ دونوں عمل واجب کر دینے والے ہیں تیسری قسم: نیت پر مبنی نیکی جو شخص کوئی نیکی کرنے کا ارادہ کرے اور اپنی نیت میں سچا ہو، یا ان تک کہ اپنے دل میں اس نیت کو محسوس کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ اس کی اس نیت کو دیکھ لے پھر کسی پیش آمد سبب کی بنا پر وہ اس نیکی کو انجام دینے سے قاصر رہے، تو اس کے حق میں پورے طور پر وہ نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ چوتھی قسم: انجام کردہ گنا جو شخص کوئی برائی کرے تو اس کے حق میں ایک برائی لکھ دی جاتی ہے ان دونوں عمل کا بدلہ ان کے برابر ملتا ہے بغیر کسی اضافے کے پانچویں قسم: ایسی نیکی جس کا بدلہ دس گنا ملتا ہے یہ اس شخص کے حق میں ہوتا ہے جو کسی نیکی کا ارادہ کرے اور اسے انجام بھی دے دے اس کے حق میں دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں چھٹی قسم: ایسی نیکی جس کا بدلہ سات سو گنا ملتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کی راہ میں کوئی مال خرچ کرے، تو اس کے حق میں اس نیکی کے بدلہ سات سو گنا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے یہ بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و احسان ہے۔ ان تک لوگوں کی چار قسموں کی بات ہے، تو وہ یہ ہیں: پہلی قسم: وہ شخص جسے دنیا میں کشادگی رزق ملتا ہے چنانچہ وہ دنیا کے اندر ناز و نعم کی زندگی گزارتا ہے اور اپنی ساری خواہشات پوری کرتا ہے، لیکن آخرت میں اسے تنگی کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اس سے مال دار کافر مراد ہے دوسری قسم: وہ شخص جسے دنیا میں رزق کی تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن آخرت میں اسے فراخی ہی فراخی ملے گی اور

اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا اس سے مراد فقیر مؤمن ہے تیسری قسم: وہ شخص جسے دنیا و آخرت ہر جگہ تنگی ہی تنگی نصیب ہوتی ہے اس سے مراد فقیر کافر ہے چوتھی قسم: وہ شخص جسے دنیا و آخرت ہر جگہ فراخی ہی فراخی نصیب ہوتی ہے اس سے مراد مال دار مؤمن ہے

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/65014>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

